



Man and Angels -- As mentioned in AlQuran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlBaqarah [2:30]

Angels ask Allah why man is being created

اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بناؤں گا اس میں ایک
خلیفہ۔ کہا انہوں نے کیا بنانے گا تو اس میں اسکو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور
بہانے گا خون۔ اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں
تیری۔ فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں وہ جو نہیں تم جانتے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Al-Infitar 82:10-12

Scribers - two Angels record all our actions

مالانکہ بیشک تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ
تم کرتے ہو۔

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا
تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

ASajdah [32:11]

Once man is born, angel of death has charge over him

کہدو کہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا ہے تم پر پھر تم
اپنے رب کی طرف لوٹانے جاؤ گے۔

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

Qaaf 50:17-19

Angels Record until the last moment of our life

اور آگیا ہر شخص کہ اسکے ساتھ ہے (فرشتہ) ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے
والا۔ اور چھوٹا گیا صور میں۔ یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا۔ اور آگیا ہر
شخص کہ اسکے ساتھ ہے (فرشتہ) ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔

وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ وَ نَفِخَ فِي
الصُّوْرِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ ﴿١٨﴾ وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا
سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ﴿١٩﴾

AlAnaaam [6:93]

Angels punish man at the time of death – man who invents lies against Allah

اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہونگے اور فرشتے
برہا رہے ہونگے اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں۔ آج دیا جانے گا تم کو عذاب
ذلت کا اس لئے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق اور کرتے تھے تم اسکی آیتوں
سے سرکشی۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا
أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْبٌ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

AlAnfaal [8:50]

Angels strike faces and backs at the time of death – man disbelieves in Allah

اور کاش کہ دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں انکی جنہوں نے کفر کیا فرشتے کہ ضربیں
لگاتے ہیں ان کے چہروں اور انکی پیٹھوں پر اور پکھومرا آگ میں جلنے کا عذاب۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُهُمْ وَ
أَدْبَارَهُمْ وَ دُوفِقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

Muhammad [47:27-28] Angels strike faces and backs at the time of death – man follows what angers Allah

تو کیسا ہو گا جب جان نکالیں گے انکی فرشتے مارتے ہوئے انکے پہروں اور انکی پیٹھوں پر۔

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

یہ اس لئے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہے اللہ اور ناپسند کیا انہوں اسکی رضا کو تو اس نے ضائع کردئے انکے اعمال۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

AnNahal [16:32] Angels say salam at the time of death – man follows purity of faith in the life

وہ جہلی رو میں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ (کفر و شرک سے) پاک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں انکے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔

الَّذِينَ تَعَوَّفْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

Fussalit [41:30-31] Angels give good news at the time of death - man stays upright in the life

بیٹھک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے۔ اتنیں گے ان پر فرشتے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور خوشی مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ اور تمہارے لئے وہاں ہے ہر وہ چیز جو چاہے گا تمہارا جی۔ اور تمہارے لئے وہاں ہے ہر وہ چیز جو تم طلب کرو گے۔

نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

